



میں اس (درگزر کرنے) کا تجھ سے زیادہ حق دار ہوں (فرشتو!) میرے بند سے درگزر کرو

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بند، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: تو نے دنیا میں کیا کیا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت فرمائی: **وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا** ”اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے“ اس نے جواب دیا: اے میرے رب! تو نے اپنے پاس سے مجھے مال دیا تھا چنانچہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا اور (اس میں) میری عادت درگزر کرنے کی تھی میں کشادہ حال پر آسانی کرتا اور تنگ دست کو ملت دے دیتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اس (درگزر کرنے) کا تجھ سے زیادہ حق دار ہوں (فرشتو!) میرے بند سے درگزر کرو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح سنی ہے

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ کے بندوں میں سے ایک بند کو لایا جائے گا جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اس کا کیا کیا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: **وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا** یعنی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ”جب کہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے“ اس شخص نے کہا: اے میرے رب! تو نے اپنے پاس سے مجھے مال دیا تھا چنانچہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا یعنی میں لوگوں سے خرید و فروخت اور قرض کے لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا وہ شخص جن اخلاق سے متصف تھا ان میں سے ایک درگزر کرنا تھا پھر اس نے اپنی بات کی وضاحت ان لفظوں میں کی: ”میں کشادہ حال پر آسانی کرتا تھا“ یعنی میں اس پر آسانی کرتا اور وہ جو کچھ دے دیتا میں اسے کچھ کم ہونے کے باوجود بھی قبول کر لیتا ”اور تنگ دست کو ملت دے دیتا تھا“ یعنی تنگ دست پر صبر کرتا بایں طور کہ اس سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی مدت میں مزید اضافہ کر دیتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”میں اس (درگزر کرنے) کا تجھ سے زیادہ حق دار ہوں“ یعنی چونکہ تو میرے بندوں سے درگزر کرتا رہا اور تو نے میری اخلاقی صفت اپنائی چنانچہ ہم تجھ سے عفو و درگزر کرنے کے زیادہ حق دار ہیں ”میرے بند سے درگزر کر دو“ یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے درگزر کرنے، ان کے ساتھ آسانی کرنے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہوتا ہے ”عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح سنی ہے“ یعنی جو بات حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی بعینہ وہی بات بنا کسی کمی بیشی کے انہوں نے بھی نبی ﷺ سے سنی ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

